

In Colors

*Quran
Al Majid*

Quran Reading

Learn Reading Quran اصول تلاوت و تجويد

Understand Quran قرآنی معانی آیات

Learn Prayers طریقہ نماز بمعہ ترجمہ

Arabic Urdu عربی - اردو

Hafiz Khan

Qaidah-Juz30-Salat with Color Coded Translation Quran Reading for Beginners – Children and Adults

ہمارے اسلامی معاشرے میں قرآن پڑھانے والے اساتذہ کی کوششوں سے ہمارے بچے اور نوجوان عمدہ طریقے سے قرآن پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ مگر صرف عربی میں تلاوت قرآن سیکھنے کے بعد وہ ساری عمر عربی ہی میں قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور انکو معلوم نہیں ہو پاتا کہ قرآن کا اصل پیغام کیا ہے۔ اسلئے یہ بہت ضروری ہے کہ شروع سے بچوں کو قرآن معنی کے ساتھ پڑھایا جائے۔ جب بچے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھیں گے تو ہمیشہ ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں گے۔ یہ کتاب اسی مقصد کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔ بچوں کو ابتدائی قاعدہ کی تعلیم کے بعد تیسویں جزء کو ترجمے اور کلر کوڈنگ کی مدد سے پڑھایا جائے۔ اس سے معنی سمجھ کر پڑھنے اور یاد رکھنے میں آسانی ہوگی۔ نماز بھی معنی اور ترجمے کے ساتھ سکھائی جائے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم نماز میں کیا کہہ رہے ہیں۔

ترجمے اور کلر کوڈنگ کے لئے مندرجہ ذیل مستند قرآنی اردو ترجمے استعمال کئے گئے ہیں۔

* اردو ترجمہ قرآن فتح محمد جالندھری

* اردو ترجمہ قرآن سید شبیر احمد

* اردو ترجمہ قرآن حافظ نذرا احمد

Hafiz Khan

Nov. 25, 2024

Web Address

www.quranpda.com

Email Address

hafizkhan2916@gmail.com



حروف عربيہ *Aarabic Alphabets*

ج

ث

ت

ب

أ

ر

ذ

د

خ

ح

ض

ص

ش

س

ز

ف

غ

ع

ظ

ط

ن

م

ل

ك

ق



ي

و

ه



صوت الحروف عربيہ *Sound of Arabic Alphabets*

ا	ب	ت	ث	ج
الف	باء	تاء	ثاء	جيم
ح	خ	د	ذ	ر
حاء	حاء	دال	ذال	راء
ز	س	ش	ص	ض
زاء	سين	شين	صاد	ضاد
ط	ظ	ع	غ	ف
طاء	ظاء	عين	غين	فاء
ق	ك	ل	م	ن
قاف	كاف	لام	ميم	نون
و	ه	لا	ء	ى
واو	هاء	لامالف	همزة	ياء

مشابه حروف عربيہ *Similar Arabic Alphabets*

ا	ب	ت	ث	ج	ح	خ
د	ذ	ر	ز	س	ش	ص
ض	ط	ظ	ع	غ	ق	ك
ل	م	ن	و	ه	لا	ء
ى						

حروف عربی متّصلہ Arabic Joining Alphabets

ا	ب	ت	ث	ج	ح	خ
أ	ب	ت	ث	ج	ح	خ
د	ذ	ر	ز	س	ش	ص
د	ذ	ر	ز	س	ش	ص
ض	ط	ظ	ع	غ	ف	ق
ض	ط	ظ	ع	غ	ف	ق
ك	ل	م	ن	ه	و	ي
ك	ل	م	ن	ه	و	ي



زبر *Fataha*

حَ ج

ثَ ث

تَ ت

بَ ب

أَ ا

رَ ر

ذَ ذ

دَ د

خَ خ

حَ ح

ضَ ض

صَ ص

ثَ ث

سَ س

زَ ز

فَ ف

غَ غ

عَ ع

ظَ ظ

طَ ط

نَ ن

مَ م

لَ ل

كَ ك

قَ ق



يَ ي

وَ و

هَ ه



زبر - الفاظ *Fataha - Words*

تَمَر

بَلَغ

أَمَرَ

جَمَعَ

ضَرَبَ

حَسَدَ

عَدَلَ

كَسَبَ

ظَلَمَ

صَدَقَ

قَمَرَ

وَجَدَ



Kasra زیر

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

ف

ق

ک

گ

ل



م

ن

ه



زیر-الفاظ *Kasra - Words*

عَجِيبَ

سَخِرَ

أَذِنَ

كَذِبَ

شَرِبَ

حَمِدَ

إِبِلَ

مَلِكَ

بَلَدَ

عَلِمَ

إِرَمَ

حَطَبَ



پیش Damma

ج

ث

ث

ب

أ

ز

د

د

ح

ح

ض

ص

ش

س

ز

ف

غ

ع

ظ

ط

ن

م

ل

ك

ق



ي

و

هـ



Damma - Words پیش - الفاظ

نُفِخَ

خُلِقَ

قُدِرَ

ضُرِبَ

وُعِدَ

عُفِرَ

رُسِلَ

أُفِقَ

عُقِدَ

أُحْرِبَ

كُتِبَ

لَهُو



Fathatain تنوین دو زہر

ج

چ

ث

ب

آ

ر

د

د

خ

ح

ض

ص

ث

س

ز

ف

ع

ع

ظ

ط

ن

م

ن

ک

ق



ی

و

ه



جِنْفًا

رَغَدًا

طَبَقًا

أَبَدًا

قَصَصًا

مَثَلًا

تَمَنَّا

كَذِبًا

لَبِنًا

كُفُوا

هُزُوا

رُسُلًا



Kasratayn تنوين دو زیر

ج

ث

ت

ب

ا

ر

ذ

د

خ

ح

ض

ص

ث

س

ز

ف

غ

ع

ظ

ط

ن

م

ل

ك

ق



ي

و

هـ



عَمَدٍ

مَسَدٍ

عَلَقِي

طَبَقِي

ثَجَرِي

نَهْرِي

كَذِبِي

يَدَمِي

خَرَجِي

مُفْرَشِي

عُظْمِي

أَكْلِي



Dammatain تنوین دو پیش

وو

ج

وو
ث

وو
ت

وو
ب

وو
ا

وو
ر

وو
د

وو
د

وو
خ

وو
ح

وو
ض

وو
ص

وو
ش

وو
س

وو
ز

وو
ف

وو
ع

وو
ع

وو
ظ

وو
ط

وو
ن

وو
م

وو
ل

وو
ك

وو
ق



وو
ی

وو
و

وو
ه



كُتِبَ

رُسِلَ

أُذِنَ

قَسِمَ

أَحَدُ

رَجُلٌ

بَشِرَ

لَعِبَ

حَرَجَ

وَلَدَ

مَرَضَ

حُرِّمَ



جذم *Jazam*

(وَ with)

سَوِّفَ

فَوَّتَ

يَوْمَ

(وَ with)

صَوِّرَ

لَذُوَ

طَوِّرَ

(يَ with)

أَيِّنَ

غَيْرَ

بَيْتَ

(يَ with)

غِيْضَ

عَيْنَ

قَيْلَ

شده Shadda

ثُمَّ = مَمْ = مَمْ

رَبَّ = رِبَّ = رِبَّ

ظَنَّ

ظَمَّ

ظَرَّ

حَجَّ

أُمَّ

كَلَّ

ظَرَّ

ظَلَّ



مد Short Madda

ي

و

ا

Short Muddah = Twice Sound Length

ذَلِكَ

أَمْوًا

أَدَمَ

صَحِيَّتِهِ

هَذِهِ

بِهِ

وُورِي

دَاوُدُ

يَرَهُ



Long Madda مد

كُلَّمَا

شَاءَ

السَّمَاءَ

الْم

مَاذَا

إِلَّا

بِمَا

دِمَاءَ

فَبَاءُوا

وَرَأَاهُ

يُقُولَا

قَضَى

شُهِدَا



Qamari Letters حروف قمری

Pronounce ل

ب = اَلْبَلَد

أ = اَلْاِنْسَان

خ = اَلْخَنَاس

ح = اَلْحَاقَّة

ج = اَلْجَائِثِيَّة

غ = اَلْغَشِيَّة

ع = اَلْعَلَق

ك = الْكَهْف

ق = الْقَلَم

ف = الْفَلَق

ي = الْيَتِيم

و = الْوَسْوَاس

م = الْمَزْمَل



Shamsi Letters حروف شمسي

Do not pronounce ل

د = الدَّهْر

ث = الثُّلُث

ت = التَّيْن

ز = الزُّخْرُف

ر = الرُّوم

ذ = الذَّرِيَّت

ش = الشَّمْس

س = السَّجْدَة

ض = الضُّحَى

ص = الصَّافَّت

ظ = الظُّمُون

ط = الطُّور

ن = النَّجْم

ل = اللَّيْل



Silent Letters

م before ن
مِنْ + مَاءٌ = مِنْ مَاءٍ

ت before د
عَبْدٌ + تُمْ = عَبَدْتُمْ

ل before ن
يَكُنْ + لَهُ = يَكُنْ لَهُ

ى before ن
مَنْ + يَشَاءُ = مَنْ يَشَاءُ

ر before ن
مِنْ + رَبِّهِمْ = مِنْ رَبِّهِمْ

و before ن
مِنْ + وَلِيٍّ = مِنْ وَلِيٍّ

همزة الوصل *Hamzatul Wasal*

اللَّهُ + الصَّمَدُ = اللَّهُ الصَّمَدُ

هُوَ + الْأَبْتَرُ = هُوَ الْأَبْتَرُ

هَذَا + الْبَيْتِ = هَذَا الْبَيْتِ

رَبِّكَ + الْأَعْلَى = رَبِّكَ الْأَعْلَى

Letters before Tanween

Tanween " " before ر

غَفُورًا + رَحِيمًا = غَفُورًا رَحِيمًا

أُمَّةٍ + رَسُولًا = أُمَّةٍ رَسُولًا

غَفُورٌ + رَحِيمٌ = غَفُورٌ رَحِيمٌ

Tanween = ُ before ل

أَشْتَاتًا + لِيُرُوا = أَشْتَاتًا لِيُرُوا

يَوْمَئِذٍ + لَخَيْرٍ = يَوْمَئِذٍ لَخَيْرٍ

Tanween = ُ before ي

لِقَوْمٍ + يُؤْمِنُونَ = لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

سَبِيلًا + يُوَيْلَتِي = سَبِيلًا يُوَيْلَتِي

Tanween = ُ before و

لَهَبٍ + وَتَبَّ = لَهَبٍ وَتَبَّ

قِيَمًا + وَقُودًا = قِيَمًا وَقُودًا

Tanween = ُ before ن

شَيْءٍ + نَحْنُ = شَيْءٍ نَحْنُ

Tanween = ُ before م

ثَوَابًا + مِنْ = ثَوَابًا مِنْ



AlFatihah الْفَاتِحَة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

سب طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو رب ہے تمام مخلوقات کا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾

بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾

حاکم ہے انصاف کے دن کا۔

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣﴾

تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٤﴾

ہدایت دے ہمیں صراطِ مستقیم پر۔

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٥﴾

راستے پر انکے تو فضل کرتا رہا جن پر۔ نہ ان کے غصے ہوتا رہا جن پر اور نہ گمراہوں کے۔

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٦﴾



النَّاسِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AnNaas 114

کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾

انسانوں کے بادشاہ کی۔

مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾

انسانوں کے معبود کی۔

إِلَهِ النَّاسِ ﴿٣﴾

شر سے وسوسہ ڈالنے والے کے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔

مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾

جو وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں۔

الَّذِي يُوسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾

وہ جنات میں سے ہو خواہ انسانوں میں سے۔

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾



الْفَلَقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AlFalaq 113

کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی۔

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾

شر سے ان چیزوں کی جو اسے پیدا کیں۔

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾

اور شر سے اندھیرے کی جب وہ چھائے۔

وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾

اور شر سے پھونکنے والیوں کی گرہوں میں

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾

اور شر سے حاسد کی جب وہ حسد کرے۔

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾



الْأَخْلَاصُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allkhlās 112

کہو وہ اللہ ہے یکتا۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾

اللہ بے نیاز ہے۔

اللَّهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾

نہ اسکی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی کی اولاد۔

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾

اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾



الْأَلْهَبُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allahab 111

ٹوٹ گئے ہاتھ ابولہب کے اور وہ ہلاک ہوا۔

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾

نہ کام آیا اس کے اس کا مال اور (نہ) وہ جو اس نے کمایا۔

مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾

وہ داخل ہو گا آگ میں بھڑکتی ہوئی۔

سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾

اور اسکی بیوی جو اٹھاتی ہے ایندھن۔

وَأَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾

اسکے گلے میں (ہوگی) رسی مونج کی۔

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴿١٠٩﴾



النَّصْر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AnNasr 110

جب آپہنچی مدد اللہ کی اور فتح حاصل ہو گئی۔

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ﴿١٠٨﴾

اور (اے نبی ﷺ) تمنے دیکھا لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج۔

وَرَأَيْتِ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ﴿١٠٩﴾

تو تسبیح کرو حمد کے ساتھ اپنے رب کی اور اس سے مغفرت طلب کرو۔ بیشک وہ ہے بہت توبہ قبول کرنے والا۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ﴿١١٠﴾
إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿١١١﴾



الْكَافِرُونَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AlKafiroon 109

کھدو (اے پیغمبر ﷺ) اے کافروں۔

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١٠٩﴾

نہیں میں عبادت کرتا جتنکی تم عبادت کرتے

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿١١٠﴾

اور نہیں تم عبادت کرنے والے جس کی

وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿١١١﴾

میں عبادت کرتا ہوں۔

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ۖ

اور نہیں میں عبادت کرنیوالا جتلی تم عبادت کرتے ہو۔

وَلَا أَنْتُمْ عِبِدُونَ مَّا أَعْبُدُ ۗ

اور نہیں تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۚ

تمہارے لئے ہے تمہارا دین اور میرے لئے میرا دین۔



الْكَوْثَرُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AlKausar 108

بیشک ہم نے (نبی ﷺ) تم کو عطا فرمائی الکوثر۔

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ۖ

تو نماز پڑھو اپنے رب کے لئے اور قربانی کرو۔

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ۗ

بیشک تمہارا دشمن وہی بے نام رہے گا۔

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۚ



الْمَاعُونُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AlMaoon 107

کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے جزا اور سزا کو۔

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكذِّبُ بِالْإِيمَانِ ۖ

سویہ وہی شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو۔

فَذٰلِكَ الَّذِيْ يَدْعُ الْيَتِيْمَ ۙ

اور نہیں ترغیب دیتا کھانا کھلانے کی نادر کو۔

وَلَا يَخْضُ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنَ ۙ

تو خرابی ہے ایسے نمازیوں کی۔

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۙ

وہ جو اپنی نماز کی طرف سے غافل ہیں۔

الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۙ

وہ جو ریاکاری کرتے ہیں۔

الَّذِيْنَ هُمْ يُرْءَاوْنَ ۙ

اور نہیں دیتے برتنے کی چھوٹی چیزیں بھی۔

وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۙ



قُرَيْشٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Quraish 106

اس بنا پر (کہ اللہ نے) مانوس کر دیا قریش کو۔

لَا يَلْفِ قُرَيْشٌ ۙ

مانوس کر کے انکو سفر سے جاڑے اور گرمی کے

الْفِهُمُ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۙ

پس وہ عبادت کریں رب کی اس گھر کے۔

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۙ

جس نے کھانا کھلایا انکو بھوک میں۔ اور امن
بختا انکو خوف سے۔

الَّذِيْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَ
اَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۙ



کیا نہیں دیکھا تم نے کہ کیا کیا تمہارے
رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔

الْمَ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ
الْفِيلِ ۝

کیا نہیں کر دیا اس نے ان کا داؤں غلط۔

الْمَ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝

اور بھیج دیئے اس نے اپر پرندے کے جھنڈ

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝

جو پھینکتے تھے ان پر پتھریاں کھنگر کی۔

تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝

تو اس نے کر دیا ان کو ایسا بھس جیسے کھایا ہو۔

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُوِيَ ۝



خزابی ہے ہر طعنے دینے والے غیبت
کرنے والے کی۔

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝

وہ جس نے جمع کیا مال اور گن کر رکھا اسے۔

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝

وہ خیال کرتا ہے کہ بیشک اس کا مال اسکی
ہمیشہ کی زندگی کا موجب ہوگا۔

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝

ہرگز نہیں وہ ضرور جھونکا جائیگا حطمہ میں۔

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝

اور کیا سمجھے تم کہ کیا ہے حطمہ۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝

آگ ہے اللہ کی بھڑکائی ہوئی۔

نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ﴿١﴾

جو باپہنچے گی دلوں تک۔

الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْآفِدَةِ ﴿٧﴾

بیشک وہ انپر (ڈھانک کر) بند کر دی جائیگی۔

إِنَّمَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ﴿٨﴾

(آگ کے) ستونوں میں اونچے اونچے۔

فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿٩﴾



الْعَصْرُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AlAsr 103

قسم ہے زمانے کی۔

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾

بیشک انسان خسارے میں ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾

سوائے انکے جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک عمل اور آپس میں تلقین کرتے رہے حق کی اور آپس میں تاکید کرتے رہے صبر کی۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾



التَّكَاثُرُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AtTakasur 102

غفلت میں ڈالے رکھا تمکو زیادہ سے زیادہ مال کی خواہش نے۔

أَهْلِكُمْ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾

حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۖ

یہاں تک کہ جا دیکھیں تم نے قبریں۔

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ

ہرگز نہیں عنقریب تمہیں معلوم ہو جائیگا۔

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ

پھر ہرگز نہیں عنقریب تمہیں معلوم ہو جائیگا۔

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۖ

ہرگز نہیں اگر تم جانتے علم یقینی سے۔

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۖ

تم ضرور دیکھو گے دوزخ کو۔

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۖ

پھر تم اسکو ضرور دیکھ لو گے یقین کی آنکھ سے۔

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۖ

پھر ضرور پوچھا جائے گا تم سے اسدن
نعمت کے بارے میں۔



الْقَارِعَةُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AlQaria 101

کھڑکھڑانے والی۔

الْقَارِعَةُ ۖ

کیا ہے کھڑکھڑانے والی۔

مَا الْقَارِعَةُ ۖ

اور کیا جانو تم کہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۖ

اس دن جب ہوں گے لوگ پروانوں جیسے
بکھرے ہوئے۔

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ
الْمَبْثُوثِ ۖ

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ



اور ہو جائیں گے پہاڑ جیسے اون دھنکی ہوئی۔

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ



پس کہ وہ وزن دار ہونگے جس کے اعمال۔

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ



تو وہ ہوگا عیش میں پسندیدہ۔

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ



اور یہ کہ وہ ہلکے ہوں گے جس کے اعمال۔

فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ



تو اس کا ٹھکانہ ہے ہاویہ۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ



اور کیا جانو تم کہ کیا ہے وہ۔

نَارٌ حَامِيَةٌ



آگ ہے دہکتی ہوئی۔



الْعَدِيَّتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AlAdiat 100

قسم ہے سپٹ دوڑنے والے (گھوڑوں) کی جو ہانپ اٹھتے ہیں۔

وَالْعَدِيَّتِ ضَبْحًا



پھر آگ نکالتے ہیں پتھروں پر نعل مار کر۔

فَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا



پھر چھاپہ مارتے ہیں صبح کو۔

فَالْمُعِيرَاتِ صُبْحًا



پھر اڑاتے ہیں اس سے گرد۔

فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعًا



فَوْسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ﴿٦﴾

پھر جاگھستے ہیں اس حالت میں مجمع میں۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ﴿٦﴾

بیشک انسان اپنے رب کا بڑانا شکر ہے۔

وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿٧﴾

اور بیشک وہ اس بات پر خود گواہ بھی ہے۔

وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾

اور بیشک وہ ہے محبت میں مال کی شدید۔

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ ﴿٩﴾

تو کیا نہیں وہ جانتا (اس وقت کو) جب نکالے جائیں گے جو قبروں میں ہیں۔

وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ ﴿١٠﴾

اور ظاہر کر دیا جائیگا جو سینوں میں ہے۔

إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ﴿١١﴾

بیشک انکا رب انے اسدن واقف ہوگا۔



الزَّلْزَالِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AlZalzalah 99

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾

جب ہلا دی جائے گی زمین بھونچال سے۔

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿٢﴾

اور نکال پھینکے گی زمین اپنے اندر کے بوجھ۔

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ﴿٣﴾

اور کہے گا انسان اس کو کیا ہوا ہے۔

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿٤﴾

اس روز وہ بیان کر دے گی اپنے حالات۔

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ﴿٥﴾

کیونکہ تمہارے رب نے حکم بھیجا اسکو اسکا۔

يَوْمَئِذٍ يَصُدُّهُ النَّاسُ أَشْتَاتًا
لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ

اس دن آئیں گے لوگ گروہ درگروہ - تاکہ
دکھا دیئے جائیں انکو ان کے اعمال -

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
يَرَهُ

تو جس نے کی ہوگی ذرہ بھر نیکی وہ اسکو دیکھ
لے گا۔

وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا
يَرَهُ

اور جس نے کی ہوگی ذرہ بھر برائی وہ اسکو دیکھ
لے گا۔



الْبَيِّنَةُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AlBayyinah 98

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ
الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ
حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

ہرگز نہ تھے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب
میں سے اور مشرکوں میں سے باز رہنے
والے یہاں تک کہ آجائے انکے پاس
کھلی دلیل۔

رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا
مُّطَهَّرَةً

ایک رسول اللہ کی طرف سے جو پڑھ کر
سناتا ہے پاک اوراق۔

فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ

جن میں لکھی ہوئی ہیں مستحکم (آیتیں)۔

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا
مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ

اور نہیں بٹے فرقوں میں وہ جنکو دی گئی
کتاب مگر اسکے بعد کہ آگئی انکے پاس دلیل۔

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَ
يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ۝

اور نہیں حکم دیا گیا تھا انکو مگر یہ کہ عبادت
کریں اللہ کی خالص کرتے ہوئے اسی کیلئے
دین کو یکسو ہو کر اور قائم کریں نماز اور ادا کریں
زکوٰۃ اور یہی ہے مضبوط اصولوں والا دین۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ
فِيهَا أُولَئِكَ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝

بیشک وہ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب
میں سے اور مشرکوں میں سے وہ ہونگے
دوزخ کی آگ میں، ہمیشہ رہیں گے اسی
میں۔ یہی لوگ ہیں بدتر تمام خلقت سے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ
الْبَرِيَّةِ ۝

بیشک وہ جو ایمان لائے اور کرتے رہے
نیک عمل یہی لوگ ہیں بہتر تمام خلقت
سے۔

جَزَاءُ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ
رَضُوا عَنْهُ ۝ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
رَبَّهُ ۝

ان کا صلہ انکے رب کے پاس ہے
باغات ہمیشہ رہنے کے بہ رہی ہیں جنکے
نیچے نہریں، وہ رہیں گے ان میں ہمیشہ
راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی
ہوئے اس سے۔ یہ ہے (صلہ) اس
کے لئے جو ڈرا اپنے رب سے۔



الْقَدْر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AlQadar 97

بیشک نازل کیا ہم نے اس کو شب قدر میں۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ^{حط}

اور کیا تمہیں معلوم کہ کیا ہے شب قدر۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ^ط

شب قدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے۔

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ^ط

اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس اسمیں
اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لئے۔

تَنْزِيلُ الْمَلِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ
رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ^ط

سلامتی ہے یہ (رات) طلوع فجر تک۔

سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ^ط



الْعَلَقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AlAlaq 96

پڑھو نام لیکر اپنے رب کا جس نے پیدا کیا۔

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ^{حط}

پیدا کیا انسان کو خون کی پھٹکی سے۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ^ط

پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ^ط

جس نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے۔

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ^ط

سکھایا انسان کو جو نہیں جانتا تھا وہ۔	عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥٦﴾
ہرگز نہیں بیشک انسان سرکش ہو جاتا ہے۔	كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَن لِّيَطْغَى ﴿٥٧﴾
کہ وہ دیکھتا ہے خود کو بے نیاز۔	أَنْ رَّاهُ اسْتَعْنَى ﴿٥٨﴾
بیشک تیرے رب ہی کی طرف لوٹتا ہے۔	إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَى ﴿٥٩﴾
کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے۔	أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ﴿٦٠﴾
ایک بندہ کہ جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے۔	عَبْدًا إِذَا صَلَّى ﴿٦١﴾
کیا تم نے دیکھا اگر یہ ہوا راہ راست پر۔	أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ﴿٦٢﴾
یا حکم کرے پرہیزگاری کا۔	أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ ﴿٦٣﴾
کیا تم نے دیکھا اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا۔	أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿٦٤﴾
کیا نہیں معلوم اسکو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔	أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ﴿٦٥﴾
ہرگز نہیں اگر نہیں وہ باز آنے گا تو ہم اسکو گھسیٹ لیں گے پیشانی کے بل۔	كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهَ ﴿٦٦﴾ لَنَسْفَعًا ﴿٦٧﴾ بِالنَّاصِيَةِ ﴿٦٨﴾
پیشانی جو جھوٹی ہے خطا کار ہے۔	نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ﴿٦٩﴾
پس بلا لے وہ اپنے حامیوں کو۔	فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿٧٠﴾
ہم بھی بلائیں گے دوزخ کے فرشتوں کو۔	سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿٧١﴾

كَلَّا ۚ لَا تُطِئُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ

سجده ﴿۱۱﴾

ہرگز نہیں۔ نہ کہا ماننا اسکا اور سجدہ کرنا اور
(اللہ کا) قرب حاصل کرتے رہنا۔ سجده



التِّينِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AtTeen 95

قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔

والتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ﴿۱﴾

اور طور سینین کی۔

وَطُورِ سَيْنِينَ ﴿۲﴾

اور اس شہر کی جو امن والا ہے۔

وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ﴿۳﴾

بیشک ہم نے پیدا کیا ہے انسان کو بہترین
سانچے میں۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ
تَقْوِيمٍ ﴿۴﴾

پھر لوٹا دیا ہم نے اسکو پست حالت میں۔

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ﴿۵﴾

مگر جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے نیک
عمل تو ان کے لئے اجر ہے بے انتہا۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿۶﴾

تو پھر کیا جھٹلا سکتا ہے تجھے اسکے بعد جزا
سزا کو۔

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ﴿۷﴾

کیا نہیں ہے اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا
سب فیصلہ کرنے والوں سے۔

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ ﴿۸﴾



الشَّرْح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AshSharah 94

(اے نبی ﷺ) کیا نہیں کھول دیا ہم
نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ۔

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ

اور ہم نے اتار دیا تم پر سے تمہارا بوجھ۔

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۙ

جس نے جھکا دی تھی تمہاری کمر۔

الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ

اور ہم نے بلند کیا تمہاری خاطر تمہارا ذکر۔

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۙ

سو بیشک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ

بیشک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ

سو جب تم فارغ ہو کرو تو محنت کیا کرو۔

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۙ

اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۙ



الضُّحَىٰ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AdDuha 93

قسم ہے آفتاب کی روشنی کی۔

وَالضُّحَىٰ ۙ

اور رات کی جب وہ چھا جائے۔

وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۙ

نہ تو چھوڑ دیا تمکو (اے نبی ﷺ) تمہارے
رب نے اور نہ ہی ناراض ہوا۔

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝۲

اور بیشک آخرت بہتر ہے تمہارے لئے
دنیا سے

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۝۳

اور عنقریب عطا فرمائے گا تمہارا رب
(اتنا کچھ) کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝۴

کیا نہیں پایا اے تمہیں یتیم پھر ٹھکانہ دیا۔

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝۵

اور پایا تمہیں ناواقف تو سیدھا رستہ دکھایا۔

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۝۶

اور پایا تمہیں تنگ دست تو غنی کر دیا۔

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝۷

پس یہ کہ جو ہوا یتیم تو نہ ستم کرنا۔

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝۸

اور یہ کہ جو ہوا مانگنے والا تو نہ جھڑکی دینا۔

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝۹

اور یہ کہ جو نعمت ہے تیرے رب کی تو
اس کا بیان کرتے رہنا۔

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝۱۰



الَّيْلَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allail 92

قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۝۱۱

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى^٢

اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے۔

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى^٣

اور اس ذات کی جنسے پیدا کئے نر اور مادہ۔

إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى^٤

بیشک تمہاری کوشش طرح طرح کی ہے۔

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى^٥

سو وہ جنسے دیا (اللہ کی راہ میں) اور ڈرا۔

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى^٦

اور سچ جانا بہترین بات کو۔

فَسُنِّيْسِرُهُ لِّلْیُسْرِی^٧

تو توفیق دیں گے ہم اسکو آسان طریقے کی۔

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى^٨

اور وہ جس نے بخل کیا اور بے پروا بنا رہا۔

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى^٩

اور جھوٹ سمجھا بہترین بات کو۔

فَسُنِّيْسِرُهُ لِّلْعُسْرِی^{١٠}

تو ہم پہنچا دینگے اسے سختی میں۔

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى^{١١}

اور نہ کام آئیگا اسکے اسکا مال جب وہ گریگا۔

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى^{١٢}

بیشک ہمارا ذمہ ہے راہ دکھا دینا۔

وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى^{١٣}

اور بیشک ہماری ہی میں آخرت اور دنیا۔

فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى^{١٤}

سو میں نے تمکو خبردار کر دیا بھڑکتی آگ سے۔

لَا يَصْلُهَا إِلَّا الْآشَقَى^{١٥}

نہ داخل ہوگا اس میں مگر بڑا بد بخت۔

الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى^{١٦}

جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔

وَسَيَجْذِبُهَا الْأَتْقَى ۝

اور بچا لیا جائے گا اس سے بڑا پرہیزگار۔

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۝

وہ جو دیتا ہے اپنا مال تاکہ پاک ہو۔

وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ ۝
يُجْزَى ۝

جبکہ نہ ہو کسی کا اس پر کوئی احسان جس کا بدلہ اتارا جائے۔

إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۝

بلکہ حاصل کرنے کے لئے رضامندی اپنے رب اعلیٰ کی۔

وَلَسَوْفَ يَرْضَى ۝

اور عنقریب وہ خوش ہو جائے گا۔



الشَّمْسِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AshShams 91

قسم ہے سورج کی اور اسکی دھوپ کی۔

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ۝

اور چاند کی جب وہ اسکے پیچھے چلے۔

وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ۝

اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے۔

وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّهَا ۝

اور رات کی جب وہ اسے چھپالے۔

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ۝

اور آسمان کی اور جیسا کہ اسنے اسے بنایا۔

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ۝

اور زمین کی اور جیسا کہ اسنے اسے پھیلایا۔

وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ۝

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾

اور نفس کی اور جیسا کہ اسے اسے درست کیا

فَالْهَمَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾

پھر سمجھ دی اسکو اسکی بدکاری اور اسکی پرہیزگاری کی۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴿٩﴾

بیشک مراد کو پہنچا جسے نفس کو پاک رکھا۔

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴿١٠﴾

اور بیشک نامراد رہا جسے اسے خاک میں ملایا

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ﴿١١﴾

جھٹلایا ثمود نے اپنی سرکشی کے سبب۔

إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا ﴿١٢﴾

جب اٹھا ان کا نہایت بدبخت۔

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ﴿١٣﴾

تو کہا ان سے اللہ کے رسول نے کہ اللہ کی اونٹنی اور اسکے پانی پینے کی باری ہے۔

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا ﴿١٤﴾

تو انہوں نے جھٹلایا اسکو پھر اس (اونٹنی) کو مار ڈالا۔ تو ہلاکت ڈالی انپر انکے رب نے انکے گناہ کے سبب۔ تو نیست و نابود کر کے برابر کر دیا۔

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ﴿١٥﴾

اور نہیں خوف اسے انکے انجام سے۔



الْبَلَد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AlBalad 90

لَا أَقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝

نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔

وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝

اور تم (نبی ﷺ) تو رہتے ہو اسی شہر میں۔

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ۝

اور (قسم) باپ کی اور اسکی اولاد کی۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۝

بیشک ہم نے بنایا انسان کو مشقت میں۔

أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يُقَدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۝

کیا اسے گمان ہے کہ ہرگز نہ قابو پائے گا
اسپر کوئی۔

يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا ۝

کہتا ہے کہ میں نے برباد کر دیا مال بہت۔

أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَآهَ أَحَدٌ ۝

کیا اسے گمان ہے کہ نہیں دیکھا اسکو کسی نے

أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۝

کیا نہیں دیں ہم نے اسکو دو آنکھیں۔

وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝

اور زبان اور دو ہونٹ۔

وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ۝

اور دکھا دیئے ہم نے اسکو دونوں راستے۔

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝

مگر نہ گذرایہ گھاٹی پر سے ہو کر۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝

اور کیا تم سمجھے کہ کیا ہے گھاٹی۔

فَكَرَّ رَاقِبَةً ۝

پھر انا کسی کی گردن کا۔

أَوْ إِطْعَمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۝

یا کھانا کھلانا بھوک کے دن میں۔

یتیم کو جو رشتہ دار ہو۔

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝

یا نادار کو مٹی میں پڑے ہوئے۔

أَوْ مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝

پھر یہ ہوا ان میں جو ایمان لائے اور نصیحت کی صبر کی اور تلقین کی مہربانی کی۔

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝

یہی لوگ ہیں دائیں طرف والے۔

أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝

اور جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا وہی ہیں بائیں طرف والے۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۝

ان پر آگ ہوگی چھائی ہوئی۔

عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤَصَّدَةٌ ۝



الْفَجْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AlFajr 89

قسم ہے فجر کی۔

وَالْفَجْرِ ۝

اور دس راتوں کی۔

وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝

اور جفت اور طاق کی۔

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝

اور رات کی جب رخت ہونے لگے۔

وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرَ ۝

کیا ان میں قسم ہے عقلمندوں کے نزدیک۔

هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ۝

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦١﴾

کیا نہیں دیکھا تم نے کیا کیا تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ۔

إِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٦٢﴾

ارم درازقد مانند ستونوں کے۔

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٦٣﴾

وہ کہ نہیں پیدا ہوئے ان جیسے ملکوں میں۔

وَشَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٦٤﴾

اور ثمود جو تراشے تھے چٹانیں وادی میں۔

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَارِ ﴿٦٥﴾

اور فرعون میخوں والے۔

الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿٦٦﴾

یہ لوگ سرکش ہو رہے تھے ملکوں میں۔

فَاكْتَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿٦٧﴾

پس کرتے تھے بہت ان میں فساد۔

فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿٦٨﴾

تو برسا دیا ان پر تمہارے رب نے کوڑا عذاب کا۔

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ ﴿٦٩﴾

بیشک تمہارا رب گھات میں ہے۔

فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ
فَاكْرَمَهُ وَ نَعَّمَهُ فَيقُولُ رَبِّي
أَكْرَمَنِي ﴿٧٠﴾

مگر انسان کہ جب آزما تا ہے اسکو اسکا رب کہ اسے عزت دیتا ہے اور نعمت بخشتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت بخشی۔

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ

لیکن پھر جب اسے آزما تا ہے کہ تنگ کر

رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ﴿١٦﴾

دیتا ہے اسپر اسکی روزی تو کہتا ہے کہ
میرے رب نے مجھے ذلیل کیا۔

كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٧﴾

ہرگز نہیں بلکہ تم خاطر نہیں کرتے یتیم کی۔

وَلَا تَخْضَوْنَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿١٨﴾

اور نہ ترغیب دیتے ہو کھلانے کی
مسکین کو۔

وَتَأْكُلُونَ الثَّرَاتِ أَكْلًا لَّمًّا ﴿١٩﴾

اور کھا جاتے ہو میراث کا مال سمیٹ کر

وَمُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٠﴾

اور بہت عزیز رکھتے ہو مال کو جی بھر کے۔

كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾

ہرگز نہیں جب برابر کی جائیگی زمین کوٹ کر۔

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾

اور ظاہر ہو گا تمہارا رب اور فرشتے قطار در
قطار۔

وَجَاءِيَّ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ﴿٢٣﴾ يَوْمَئِذٍ
يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ
الذِّكْرَىٰ ﴿٢٤﴾

اور لائی جائیگی اسدن دوزخ تو اس دن
سوچے گا انسان مگر اب کہاں اسے
(فائدہ) سوچنے سے۔

يَقُولُ يَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿٢٥﴾

کہے گا کاش میں نے آگے بھیجا ہوتا اپنی
اس زندگی کیلئے کچھ۔

فِيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ﴿٢٦﴾

تو اسدن نہ عذاب دیگا اسکا عذاب کوئی اور۔

وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ ﴿٢٦﴾

اور نہ جکڑے گا اسکا سا جکڑنا کوئی اور۔

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾

اے جان اطمینان والی۔

ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾

لوٹ چل اپنے رب کی طرف۔ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔

فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾

سو تو شامل ہو جا میرے خاص بندوں میں۔

وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾

اور داخل ہو جا میری بہشت میں۔



الْغَشِيَّةُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AlGhashia 88

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ﴿١﴾

کیا پہنچی ہے تلو خبر ڈھانپ لینے والی کی۔

وَجُودُهُ يُومِدُ خَاشِعَةً ﴿٢﴾

بہت سے پہرے اس روز ہونگے خوفزدہ۔

عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿٣﴾

سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے۔

تَصَلِي نَارًا حَامِيَةً ﴿٤﴾

داخل ہوں گے آگ میں دہکتی ہوئی۔

تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ ﴿٥﴾

پلایا جائیگا انکو ایک کھولتے چشمے سے۔

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ﴿٦﴾

نہیں ہو گا انکے لئے کوئی کھانا سوائے ایک سخت خاردار جھاڑی کے۔

نہ جو غذا بنے اور نہ کام آئے بھوک میں	لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ ﴿٧﴾
بہت سے چہرے اس روز ہونگے شادمان۔	وَجُوهٌ يُّوَمِّدُ نَاعِمَةً ﴿٨﴾
اپنی محنت کے بدلے راضی۔	لِسَعِيهَا رَاضِيَةً ﴿٩﴾
بہشت بریں میں۔	فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾
نہیں سنیں گے وہاں کوئی لغو بات۔	لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾
اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے۔	فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾
وہاں تخت ہوں گے اونچے اونچے۔	فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾
اور کھڑے قرینے سے رکھے ہونے۔	وَأَكْوَابُ مَوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾
اور گاؤ تکیے قطار در قطار لگے ہونے۔	وَأَنْمَارِقٌ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾
اور نفیس مسندیں جگہ جگہ بچھی ہوئی۔	وَزُرَابٍ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾
تو کیا نہیں یہ دیکھتے اونٹوں کی طرف کہ کیسے پیدا کئے گئے ہیں۔	أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْآبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾
اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے۔	وَالِى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾
اور پہاڑوں کی طرف کہ کیسے جانے گئے۔	وَالِى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾
اور زمین کی طرف کہ کیسے بچھائی گئی ہے۔	وَالِى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾

فَذَكِّرْ^ط إِمَّا أَنْتَ مُذَكِّرٌ^ط

پس تم نصیحت کرتے رہو بس تم تو ناصح ہو۔

لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ^ص

تم نہیں ہو ان پر داروغہ۔

إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ^ص

مگر جس نے منہ پھیرا اور انکار کیا۔

فَيَعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ^ط

تو عذاب دیگا اسکو اللہ عذاب بہت بڑا۔

إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ^ص

بیشک ہمارے پاس انکو لوٹ کر آنا ہے۔

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ^ص

پھر بیشک ہمارے ذمے ہے انکا حساب۔



الْأَعْلَى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AlAala 87

تسبیح کر نام کی اپنے رب کے جو مالیشان ہے

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى^ص

جس نے پیدا کیا پھر درست کیا۔

الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى^ص

اور جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر اسکو راستہ بتایا۔

وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى^ص

اور جس نے اگایا چارہ۔

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى^ص

پھر اسکو کر دیا کوڑا سیاہ رنگ کا۔

فَجَعَلَهُ عُتَّاءً أَلْحَى^ط

ہم تمہیں پڑھانینگے پھر نہ تم فراموش کرو گے

سَنُقَرِّئُكَ فَلَا تَنْسَى^ص

إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ
وَمَا يَخْفَى^ط

مگر جو چاہے اللہ۔ بیشک وہ جانتا ہے کھلی
بات کو اور وہ جو چھپی ہو۔

وَنَيْسِرِكَ لِلْيُسْرَى^ط

اور ہم توفیق دیں گے تمکو آسان طریقے کی۔

فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى^ط

سو نصیحت کرتے رہو اگر نافع ہو نصیحت۔

سَيَذَكِّرْ مَنْ يَخْشَى^ط

وہ نصیحت حاصل کریگا جو خوف رکھتا ہے۔

وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى^ط

اور کترانے گا اس سے بدبخت۔

الَّذِي يَصِلِي النَّارَ الْكُبْرَى^ط

وہ داخل ہو گا آگ میں جو بڑی تیز ہے۔

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى^ط

پھر نہ مرے گا وہاں اور نہ جئے گا۔

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى^ط

بیشک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا۔

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى^ط

اور لیتا رہا نام اپنے رب کا پھر نماز پڑھتا رہا۔

بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا^ط

لیکن تم ترجیح دیتے ہو زندگی کو دنیا کی۔

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى^ط

حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔

إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى^ط

بیشک یہ بات درج ہے پہلے صحیفوں میں

صُّحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى^ط

صحیفوں میں ابراہیم اور موسیٰ کے۔



الطَّارِقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AtTariq 86

قسم ہے آسمان اور رات کے تارے کی۔

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ﴿١﴾

اور کیا تمکو معلوم کہ کیا ہے رات کا تارا۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ﴿٢﴾

وہ تارا ہے چمکنے والا۔

النَّجْمِ الثَّاقِبِ ﴿٣﴾

نہیں کوئی شخص ایسا کہ نہ ہو جس پر نگہبان۔

إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾

تو دیکھنا چاہیے انسان کو کس چیز سے وہ پیدا ہوا

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾

وہ پیدا ہوا ہے پانی سے اچھلتے ہوئے۔

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾

جو نکلتا ہے بیچ میں سے پیٹھ اور سینے کے۔

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ﴿٧﴾

بیشک وہ اسکو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔

إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ﴿٨﴾

جس دن جانچے جائیں گے سب بھید۔

يَوْمَ تَبْلَى السَّرَائِرُ ﴿٩﴾

تو نہ ہوگا اس کا کوئی زور اور نہ کوئی مددگار۔

فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ﴿١٠﴾

قسم ہے آسمان کی جو مینہ برساتا ہے۔

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ﴿١١﴾

وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝

اور زمین کی جو پھٹ جاتی ہے۔

إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ۝

بیشک یہ کلام ہے فیصلہ کن۔

وَمَا هُوَ بِأَهْزَلٍ ۝

اور نہیں ہے یہ کوئی مذاق۔

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝

بیشک یہ لگ رہے ہیں اپنی تدبیروں میں۔

وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝

اور میں کر رہا ہوں اپنی تدبیر۔

فَمَهْلٍ الْكٰفِرِيْنَ اَمْهَلُهُمْ رُوِيْدًا ۝

تو (اے نبی ﷺ) تم مہلت دو کافروں کو بس مہلت اور دیدوان کو ایک تھوڑی۔



الْبُرُوجِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AlBurooj 85

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝

آسمان کی قسم جس میں برج ہیں۔

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۝

اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے۔

وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ۝

اور شاہد کی اور جسکی شہادت دی جائے۔

قَتِيلَ أَصْحَابِ الْأُخْدُودِ ۝

ہلاک کر دیئے گئے خندقوں والے۔

النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ۝

وہ آگ جھونک رکھا تھا ایندھن جس میں۔

إِذْهُمْ عَلَيْهَا قُوعُودٌ ﴿٦﴾

جبکہ وہ اسکے (کناروں) پر بیٹھے ہوئے تھے۔

وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿٧﴾

اور وہ جو (ظلم) کر رہے تھے اہل ایمان پر۔ وہ اسکا نظارہ کر رہے تھے۔

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿٨﴾

اور نہیں بدلہ لیا ان سے مگر یہ کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر جو غالب سب خوبیوں والا ہے۔

الَّذِي لَهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٩﴾

وہ جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿١٠﴾

بیشک جن لوگوں نے تکلیفیں دیں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پھر نہ کی توبہ تو ان کو عذاب ہو گا دوزخ کا اور انکو عذاب ہو گا جلنے کا بھی۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ﴿١١﴾

بیشک جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے نیک کام ان کے لئے باغات ہیں بہ رہی ہیں جنکے نیچے نہریں یہی کامیابی ہے بڑی۔

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾

بیشک پکڑتہارے رب کی سخت ہے۔

إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾

بیشک وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ﴿١٤﴾

اور وہ ہے بخشنے والا بہت محبت کرنیوالا۔

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ﴿١٥﴾

عرش کا مالک بڑی شان والا۔

فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾

سو کر ڈالتا ہے جو چاہتا ہے۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١٧﴾

کیا تمکو معلوم ہوا ہے حال لشکروں کا۔

فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾

فرعون اور ثمود (کا)۔

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ﴿١٩﴾

بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تکذیب میں ہیں۔

وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ﴿٢٠﴾

جبکہ اللہ انکو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے

بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿٢١﴾

بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے۔

فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ﴿٢٢﴾

لوح محفوظ میں۔



الْإِنْشِقَاقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AllInshiqaq 84

جب آسمان پھٹ جائے گا۔

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ﴿٢٣﴾

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ^٢

اور سن لے گا اپنے رب کا فرمان اور یہی اسکے لائق بھی ہے۔

وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ^٣

اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی۔

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ^٤

اور نکال کر باہر ڈال دے گی جو کچھ اس میں ہے اور وہ بالکل خالی ہو جائے گی۔

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ^٥

اور ارشاد کی تعمیل کرے گی اپنے رب کے اور اسکو لازم بھی یہی ہے۔

يَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَارِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلْقِيهِ^٦

اے انسان بیشک تجھے تکلیف اٹھانا ہے اپنے رب کی طرف (پہنچنے میں) خوب تکلیف۔ پھر تو اس سے جا ملے گا۔

فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ^٧

پس جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں۔

فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَّسِيرًا^٨

پس لیا جائے گا اس سے حساب آسان۔

وَيُنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا^٩

اور وہ واپس آئیگا اپنے گھر والوں میں خوش۔

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ^{١٠}

اور یہ کہ جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ اعمال اسکی پیٹھ کے پیچھے سے۔

فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ۝۱۱

تو وہ پکارے گا موت کو۔

وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ۝۱۲

اور داخل ہو گا دوزخ میں۔

إِنَّهٗ كَانَ فِيٓ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۝۱۳

بیشک وہ تھا اپنے اہل و عیال میں مگن۔

إِنَّهٗ ظَنَّ أَنْ لَّنْ نَّجُوزًا ۝۱۴

بیشک وہ تو خیال کرتا تھا کہ ہرگز نہیں لوٹنا۔

بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۝۱۵

کیوں نہیں بیشک اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا۔

فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝۱۶

پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شام کی سرخی کی

وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝۱۷

اور رات کی اور انکی جن چیزوں کو اکٹھا کرے۔

وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۝۱۸

اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے۔

لَتَرَنَّ كَيْبًا طَبَقًا عَنْ طَبِقٍ ۝۱۹

کہ تم لوگ ضرور چڑھو گے درجہ بدرجہ۔

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۝۲۰

تو کیا ہو ان لوگوں کو کہ نہیں یہ ایمان لاتے

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا
يَسْجُدُونَ ۝۲۱

اور جب پڑھا جاتا ہے انکے سامنے قرآن تو
نہیں سجدہ کرتے۔ سجدہ

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ ۝۲۲

بلکہ وہ جنہوں نے کفر کیا جھٹلاتے ہیں۔

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۝۲۳

اور اللہ جانتا ہے اسکو جو یہ چھپاتے ہیں۔

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾

تو انکو خبر سنا دو دکھ دینے والے عذاب کی۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾

ہاں مگر جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے
نیک عمل انکے لئے اجر ہے بے انتہا۔



الْمُطَفِّفِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AlMutaffifin 83

خزابی ہے ناپ تول کی کمی کرنیوالوں کے
لئے۔

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾

وہ لوگ جو جب ناپ کر لیں لوگوں سے تو
پورا لیں۔

الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ
يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾

اور جب ان کو ناپ کر دیں ان کو یا تول کر
دیں انہیں تو کم کر کے دیں۔

وَ إِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ
يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

کیا نہیں خیال کرتے یہ لوگ کہ بیشک وہ
اٹھائے جانے والے ہیں۔

أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ
﴿٤﴾

ایک ایسے دن میں جو بڑا سخت ہے۔

لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾

جس دن کھڑے ہوں گے تمام لوگ رب
العالمین کے سامنے۔

يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفَجَارِ لَفِي
سَجِّينٍ ﴿٧﴾

ہرگز نہیں بیشک اعمال نامے بدکاروں
کے سجین میں ہونگے۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَجِّينٌ ﴿٨﴾

اور کیا تم جانتے ہو کہ کیا ہے سجین۔

كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٩﴾

ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾

خزانی ہے اسدن جھٹلانے والوں کیلئے۔

الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿١١﴾

وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں انصاف کے دن کو۔

وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ
أَثِيمٍ ﴿١٢﴾

اور نہیں جھٹلاتا اس کو مگر وہی ہے جو حد
سے نکل جانے والا گنہگار ہے۔

إِذَا تُمْتَلَىٰ عَلَيْهِ أَيْتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ
الْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾

جب سنائی جاتی ہیں اسکو ہماری آیتیں تو
کہتا ہے یہ تو افسانے ہیں پہلے لوگوں کے۔

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا
كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾

ہرگز نہیں بات یہ ہے کہ زنگ ہے
انکے دلوں پر اسکا جو کما تے رہے ہیں۔

كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ
لَمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾

ہرگز نہیں بیشک یہ اپنے رب (کے
دیدار) سے اس روز اوٹ میں ہونگے۔

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾

پھر بیشک وہ داخل ہوں گے دوزخ میں۔

پھر (ان سے) کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے تم جسکو جھٹلاتے تھے۔

ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ
تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾

ہرگز نہیں بیشک اعمال نامے نیکو کاروں کے علیین میں ہونگے۔

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي
عَلِيِّنَ ﴿١٨﴾

اور کیا تمکو معلوم کہ کیا چیز ہے علیین۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عَلِيُّنَ ﴿١٩﴾

ایک دفتر ہے لکھا ہوا۔

كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾

جسکے پاس حاضر ہوتے ہیں مقرب فرشتے۔

يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾

بیشک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے۔

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾

تختوں پر (بیٹھے ہوئے) نظارے کریں گے۔

عَلَى الْأَرَائِكِ يُنظَرُونَ ﴿٢٣﴾

تم معلوم کر لو گے ان کے چہروں ہی سے تازگی نعمت کی۔

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ
النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾

ان کو پلائی جائے گی شراب خالص سر بہر۔

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿٢٥﴾

جسکی مہر مشک کی ہوگی۔ اور (چاہیے کہ) اسی کی رغبت کریں رغبت کرنے والے۔

خِتْمُهُ مِسْكٌَ وَ فِي ذَلِكَ
فَلْيَتَنَافِسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿٢٦﴾

اور اس میں آمیزش ہوگی تسنیم کی۔

وَمِنْ أَجْهِ مِنْ تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۝ ط

ایک چشمہ پئیں گے جس میں سے مقرب بندے

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ
الَّذِينَ آمَنُوا يُضْحَكُونَ ۝ ط

بیشک وہ لوگ جنہوں نے جرم کئے کرتے
تھے وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہنسی۔

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۝ ط

اور جب گزرتے انکے پاس سے تو
حقارت سے اشارے کرتے تھے۔

وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا
فَكَهِينٌ ۝ ط

اور جب لوٹتے تھے اپنے گھر والوں کی
طرف تو لوٹتے تھے اتراتے ہوئے۔

وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ
لَضَالُّونَ ۝ ط

اور جب ان کو (یعنی مومنوں) کو دیکھتے تو
کہتے تھے بیشک یہ لوگ گمراہ ہیں۔

وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ۝ ط

حالانکہ نہیں وہ بھیجے گئے تھے انہر نگراں بنا کر

فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ
يُضْحَكُونَ ۝ ط

تو آج وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کافروں
پر ہنسیں گے۔

عَلَىٰ الْأَرْآئِكِ يَنْظُرُونَ ۝ ط

بلند مسندوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔

هَلْ تُؤْتُونَ الْكُفَّارَ مَا كَانُوا
يَفْعَلُونَ ۝ ط

کیا پورا بدلہ مل گیا کافروں کو اسکا جو یہ
کرتے تھے۔



الْأَنْفِطَارِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allinfitar 82

جب آسمان پھٹ جائے گا۔

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ ۝۱

اور جب تارے جھڑپڑیں گے۔

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۝۲

اور جب سمندر ابل پڑیں گے۔

وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝۳

اور جب قبریں اکھیر دی جائیں گی۔

وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ۝۴

تب معلوم کر لے گا ہر شخص کہ کیا اس نے آگے بھیجا تھا اور (کیا) پیچھے چھوڑا۔

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَآخَرَتْ ۝۵

اے انسان کس چیز نے دھوکا دیا تجھ کو اپنے رب کے بارے میں جو کریم ہے۔

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّبَكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۝۶

وہی ہے جس نے تجھے بنایا پھر درست کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا۔

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۝۷

جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ ۝۸

ہرگز نہیں بلکہ تم لوگ جھٹلاتے ہو جزا کو۔

كَلَّا بَلْ تُكذِّبُونَ بِالذِّينِ ۝۹

حالانکہ بیشک تم پر ننگبان مقرر ہیں۔

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ ۝۱۰

كِرَامًا كَاتِبِينَ ﴿١١﴾

معزز لکھنے والے۔

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾

وہ جانتے ہیں اسے جو کچھ تم کرتے ہو۔

إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿١٣﴾

بیشک نیکوکار نعمتوں میں ہونگے۔

وَأِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ﴿١٤﴾

اور بیشک بدکردار دوزخ میں ہونگے۔

يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٥﴾

اسمیں داخل ہوں گے اسدن جو جزا کا ہے۔

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ﴿١٦﴾

اور نہیں وہ اس سے چھپ سکیں گے۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٧﴾

اور کیا تمہیں معلوم کہ کیسا ہے جزا کا دن۔

ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿١٨﴾

پھر کیا تمہیں معلوم کہ کیسا ہے جزا کا دن۔

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا ﴿١٩﴾

وہ دن کہ نہ آسکے گا کوئی کسی کے کچھ کام

وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ ﴿٢٠﴾

۔ اور حکم اس دن اللہ ہی کا ہوگا۔



التَّكْوِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AtTakweer 81

جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿٢١﴾

اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے۔

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ﴿٢٢﴾

اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔	وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿٢﴾
اور جب حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی۔	وَإِذَا الْعِشَاءُ عُطِّلَتْ ﴿٤﴾
اور جب وحشی جانور جمع کئے جائیں گے۔	وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿٥﴾
اور جب سمندر آگ ہو جائیں گے۔	وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٦﴾
اور جب روہیں جسموں سے ملا دی جائیں گی۔	وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾
اور جب زندہ دفنا دی پچی سے پوچھا جائیگا۔	وَإِذَا الْمَوْءِدَةُ سُبِلَتْ ﴿٨﴾
کہ کس گناہ کے سبب وہ قتل کر دی گئی۔	بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾
اور جب اعمال کے دفتر کھولے جائیں گے۔	وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١٠﴾
اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا۔	وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ﴿١١﴾
اور جب دوزخ کی آگ بھڑکانی جائے گی۔	وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾
اور جب بہشت قریب لائی جائے گی۔	وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾
تب معلوم کر لے گا ہر شخص کہ کیا وہ لایا۔	عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾
نہیں پس۔ میں قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔	فَلَا أَقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ﴿١٥﴾

الجَوَارِ الْكُنَّسِ ﴿١٦﴾

جو چلتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں۔

وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿١٧﴾

اور رات (کی قسم) جب وہ پھیلنے لگے۔

وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿١٨﴾

اور صبح (کی قسم) جب وہ سانس لیتی ہے۔

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ﴿١٩﴾

بیشک یہ (قرآن) سنایا ہوا پیغام ہے
فرشتہ عالی مقام کا۔

ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ
مَكِينٍ ﴿٢٠﴾

جو صاحب قوت ہے مالک عرش کے
ہاں اونچے درجے والا ہے۔

مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ﴿٢١﴾

سردار ہے ساتھ ہی امانتدار ہے۔

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾

اور نہیں تمہارا رفیق (پیغمبر ﷺ) دیوانہ۔

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ﴿٢٣﴾

اور بیشک اسے دیکھا اسکو آسمان کے
کنارے پر۔

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٤﴾

اور نہیں وہ غیب کی باتوں میں بخیل۔

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ ﴿٢٥﴾

اور نہیں ہے یہ کلام کسی شیطان مردود کا۔

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿٢٦﴾

پھر کدھر تم چلے جا رہے ہو۔

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٧﴾

نہیں ہے یہ مگر نصیحت تمام لوگوں کے لئے۔

لَمِنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۝۲۸

اسکے لئے جو چاہے تم میں سیدھی راہ چلنا۔

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝۲۹

اور نہیں چاہ سکتے تم مگر یہ کہ چاہے اللہ رب العالمین۔



عَبَسَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Abasa 80

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۝۱

(مہینمبر ﷺ) نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا۔

أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۝۲

کہ انکے پاس آیا ایک نابینا۔

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّه يَزْكَى ۝۳

اور کیا تم کو خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔

أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۝۴

یا وہ سمجھ جاتا تو اسے فائدہ دیتا سمجھانا۔

أَمَّا مَنْ اسْتَعْنَى ۝۵

یہ کہ وہ جو پروا نہیں کرتا۔

فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى ۝۶

سو تم اسکی طرف توجہ کرتے ہو۔

وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزْكَى ۝۷

حالانکہ نہیں تم پر اگر نہ وہ سنورے۔

وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ۝۸

اور یہ کہ وہ جو آیا تمہارے پاس دوڑتا ہوا۔

وَهُوَ يَخْشَى ۝۹

اور وہ ڈرتا بھی ہے۔

فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى ۚ

تو تم اس سے بے رخی کرتے ہو۔

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۙ

ہرگز نہیں۔ یہ تو نصیحت ہے۔

فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۚ

پس جو چاہے اسے یاد رکھے۔

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۙ

ورقوں میں لکھا ہوا قابل تکریم۔

مَرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ۙ

بلند مقام پر پاکیزہ۔

بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ۙ

ہاتھوں میں ہیں ایسے لکھنے والوں کے۔

كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۙ

جو بلند مرتبہ اور نیکو کار ہیں۔

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ۙ

مارا جائے انسان کیسا یہ ناشکر ہے۔

مِنْ أَيْ شَيْءٍ خَلَقَهُ ۙ

کس چیز سے اسے بنایا۔

مِنْ نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ۙ

نطفے سے اسے بنایا پھر اسکا اندازہ مقرر کیا۔

ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ۙ

پھر راستہ آسان کر دیا اسکے لئے۔

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ۙ

پھر اسکو موت دی سو اسے قبر میں پہنچا دیا۔

ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ۙ

پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھا کھڑا کریگا۔

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ۙ

ہرگز نہیں اسپر عمل نہ کیا جو حکم دیا اسے۔

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۚ

تو نظر کرے انسان اپنے کھانے کی طرف۔

أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ۚ

بیشک ہم نے برسایا پانی فراوانی سے۔

ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۚ

پھر ہم نے پھاڑا زمین کو اچھی طرح۔

فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۚ

پھر ہم نے اگایا اس میں اناج۔

وَعِنَبًا وَقَضْبًا ۚ

اور انگور اور ترکاری۔

وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۚ

اور زیتون اور کھجوریں۔

وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۚ

اور باغات گھنے گھنے۔

وَفَاكِهَةً وَأَبًّا ۚ

اور میوے اور چارا۔

مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِإِنْعَامِكُمْ ۚ

متاع تمہارے اور تمہارے مویشیوں کیلئے۔

فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَةُ ۚ

تو جب آئگی کانوں کو پھاڑنے والی آواز۔

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۚ

اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے۔

وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۚ

اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے۔

وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ۚ

اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔

لِكُلِّ امْرِيٍّ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ

ہر شخص ان میں اس دن ایک فکر میں ہو

يُغْنِيهِ ۚ

گا جو اسے سب سے بے نیاز کر دیگی۔

کتنے پہرے اس دن چمک رہے ہونگے۔

وَجُودُهُ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾

خداں شاداں۔

صَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾

اور کتنے پہرے اس دن جن پر گرد پڑ رہی ہوگی۔

وَوَجُودُهُ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾

چڑھ رہی ہوگی ان پر سیاہی۔

تَرَهَقُهَا قَتِرَةٌ ﴿٤١﴾

یہی لوگ ہونگے کفر کرنے والے بد کردار۔

أُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرَةُ الْفَجِرَةُ ﴿٤٢﴾



النَّزِعَاتِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

AnNaziat 79

فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر جان لیتے ہیں۔

وَالنَّزِیْعَاتِ غُرُقًا ﴿١﴾

اور ان کی جو نکالتے ہیں جان آسانی سے۔

وَالنَّشِیْطِ نَشْطًا ﴿٢﴾

اور انکی جو تیرتے جاتے ہیں تیزی سے۔

وَالسَّیِّحَاتِ سَبْحًا ﴿٣﴾

پھر آگے بڑھتے ہیں لپک کر۔

فَالسَّیِّقَاتِ سَبْقًا ﴿٤﴾

پھر انتظام کرتے ہیں کاموں کا۔

فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا ﴿٥﴾

جس دن ہلا ڈالے گا وہ زلزلہ۔

یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾

پھر اس کے پیچھے آنے گا اور زلزلہ۔

تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ﴿٧﴾

قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿٨﴾	کتنے ہی دل اس دن خوفزدہ ہوں گے۔
أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴿٩﴾	انکی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔
يَقُولُونَ عَرَانَا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ﴿١٠﴾	یہ کہتے ہیں کیا ہم ضرور لوٹائے جائیں گے پہلی حالت میں۔
عِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ﴿١١﴾	کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں کھوکھلی۔
قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿١٢﴾	کہتے ہیں کہ یہ پھر لوٹنا نقصان کا ہوگا۔
فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ﴿١٣﴾	تو بس وہ ڈانٹ ہوگی ایک بار۔
فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾	اسوقت وہ سب آجمع ہوں گے حشر میں۔
هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿١٥﴾	کیا تم کو پہنچی ہے حکایت موسیٰ کی۔
إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾	جب پکارا اسکو اس کے رب نے پاک میدان طوی میں۔
إِذْ هَبَّ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿١٧﴾	جاؤ فرعون کے پاس یقیناً وہ سرکش ہو گیا۔
فَقُلْ هَلْ لَّكَ إِلَىٰ أَنْ تَزُكَّىٰ ﴿١٨﴾	پھر کہو کہ کیا تو چاہتا ہے یہ کہ پاک ہو جائے۔
وَأَهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴿١٩﴾	اور میں تجھے رستہ بتاؤں تیرے رب کا تاکہ تجھ کو خوف پیدا ہو۔

فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ ﴿٢١﴾

غرض اس نے دکھائی اسکو بڑی نشانی۔

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿٢٢﴾

مگر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ﴿٢٣﴾

پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا۔

فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿٢٤﴾

سو اس نے اکٹھا کیا (لوگوں کو) پھر پکارا۔

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٥﴾

سو کہنے لگا میں ہوں تمہارا رب بڑا۔

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ﴿٢٦﴾

تو پکڑ لیا اسکو اللہ نے عذاب میں آخرت اور دنیا کے۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَخْشَىٰ ﴿٢٧﴾

بیشک اس میں عبرت ہے اس کے لئے جو ڈر رکھتا ہے۔

ءَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنِيهَا ﴿٢٨﴾

کیا تمہارا مشکل ہے بنانا یا آسمان کا۔ (اللہ نے) اسکو بنایا۔

رَفَعَ سَمُوكَهَا فَسَوَّيَهَا ﴿٢٩﴾

اونچا کیا اس کی چھت کو پھر اسے برابر کیا۔

وَ أَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٣٠﴾

اور تاریک بنائی اسکی رات اور نکالی اسکے دن میں دھوپ۔

وَ الْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا ﴿٣١﴾

اور زمین کو اسکے بعد پھیلا دیا۔

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿٣٢﴾

نکالا اس میں سے اسکا پانی اور اسکا چارہ۔

وَالْجِبَالِ أَرْسِهَآ ۝

اور پہاڑوں کا اس پر بوجھ رکھ دیا۔

مَتَاعًا لَّكُمْ وَإِلَّا نَعَامِكُمْ ۝

فائدہ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لئے۔

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ۝

پھر جب آنے لگی وہ آفت بہت بڑی۔

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ ۝

اس دن یاد کرے گا انسان جو کچھ وہ کرتا رہا۔

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ۝

اور لائی جائیگی دوزخ ہر دیکھنے والے کے۔

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۝

پس یہ کہ جس نے سرکشی کی۔

وَأَثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۝

اور مقدم رکھا زندگی کو اس دنیا کی۔

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝

تو بیشک دوزخ ہی ہے اس کا ٹھکانہ۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَىٰ
النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝

اور یہ کہ جو ڈرتا رہا کھڑے ہونے سے اپنے
رب کے سامنے اور روکتا رہا نفس کو بیجا
خواہشوں سے۔

فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝

تو بیشک بہشت ہی ہے اس کا ٹھکانہ۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ
مُرْسِلُهَا ۝

(پیغمبر ﷺ) یہ تم سے پوچھتے ہیں قیامت
کے بارے میں کہ کب اس کی آمد ہے۔

فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۝

سو تم کو کیا کام اس کے ذکر سے۔

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَىٰ ۗ

تمہارے رب پر ہے اسکے ہونے کا وقت۔

إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ مَّن يَّحْشَىٰ ۗ

بس تم ڈرائیوالے ہو اسکو جو اس سے ڈرے۔

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا

تو ایسا جس دن وہ اسکو دیکھیں گے کہ گویا
نہیں رہے تھے (دنیا میں) مگر ایک شام
یا اسکی صبح۔

عَشِيَّةً أَوْ صُحْبًا ۗ



النَّبَا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AnNaba 78

عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ۗ

کس چیز کی نسبت یہ لوگ پوچھتے ہیں۔

عَنِ النَّبَا الْعَظِيمِ ۙ

کیا اس خبر کی نسبت جو بہت بڑی ہے۔

الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۗ

وہ (چیز) یہ جس میں اختلاف کر رہے ہیں۔

كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۙ

ہرگز نہیں۔ یہ عنقریب جان لیں گے۔

ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ۗ

پھر ہرگز نہیں یہ عنقریب جان لیں گے۔

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهْدًا ۙ

کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو پچھونا۔

وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا ۙ

اور پہاڑوں کو (اس کی) میخیں۔

وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا ۙ

اور ہم نے پیدا کیا تم کو جوڑا جوڑا۔

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝١

اور بنایا ہم نے تمہاری نیند کو موجب آرام۔

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۝٢

اور بنایا ہم نے رات کو پردہ۔

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝٣

اور بنایا ہم نے دن کو معاش کے لئے۔

وَبَيَّنَّا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝٤

اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط۔

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ۝٥

اور بنایا ہم نے آفتاب کا چراغ روشن۔

وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً
ثَجَّاجًا ۝٦

اور برسایا ہم نے نچڑتے بادلوں سے مینہ
موسلا دھار۔

لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۝٧

تاکہ ہم پیدا کریں اس سے اناج اور نباتات۔

وَجَنَّتِ الْفَاوَا ۝٨

اور باغات گھنے۔

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۝٩

بیشک فیصلے کا دن ہے مقرر۔

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ
أَفْوَاجًا ۝١٠

جس دن پھونکا جائے گا صور میں تو تم
آموجود ہو گے فوج در فوج۔

وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ
أَبْوَابًا ۝١١

اور کھولا جائے گا آسمان تو اس میں ہو
جائیں گے دروازے۔

وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝١٢

اور چلائے جائیں گے پہاڑ تو وہ ہو جائیں گے ریت۔

بیشک دوزخ ہے گھات میں۔	إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾
سرکشوں کیلئے ٹھکانہ۔	لِللَّطِغِينَ مَابًا ﴿٢٢﴾
پڑے رہیں گے اس میں صدیوں۔	لِبِئْسِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾
نہ چکھیں گے مزہ اس میں ٹھنڈک کا اور نہ ہی پینے کی کچھ چیز کا۔	لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾
مگر کھولتا پانی اور بدبودار پیپ۔	إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾
یہ بدلہ ہے (انکے اعمال کے) موافق۔	جَزَاءٌ وَفَاقًا ﴿٢٦﴾
بیشک یہ امید نہیں رکھتے تھے حساب کی۔	إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾
اور جھٹلاتے تھے ہماری آیتوں کو جھوٹ۔	وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾
اور ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر رکھا ہے لکھ کر۔	وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢٩﴾
سو اب مزہ چکھو۔ پس ہرگز نہیں ہم بڑھاتے جائیں گے تم پر مگر عذاب ہی۔	فَذُوقُوا فَلَنْ نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾
بیشک پرہیزگاروں کے لئے کامیابی ہے۔	إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾
باغ اور انگور۔	حَدَّ آيِقٍ وَأَعْنَابًا ﴿٣٢﴾
اور بھرپور جوان ہم عمر (عورتیں)۔	وَأَكْوَاعٍ أَتْرَابًا ﴿٣٣﴾

وَكَاَسًا دِهَاقًا ۝

اور جام شراب کے چھلکتے ہوئے۔

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَ لَا
كِذْبًا ۝

نہ سنیں گے وہاں بیہودہ بات اور نہ
جھوٹ۔

جَزَاءً مِّنْ رَبِّكَ عَطَاءً
حِسَابًا ۝

صلہ تمہارے رب کی طرف سے انعام
حساب کے مطابق۔

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَا
بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ
خِطَابًا ۝

رب آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان
دونوں کے درمیان ہے۔ بڑا مہربان
ہے۔ نہیں اختیار ہوگا ان کو اس سے
بات کرنے کا۔

يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلِكَةُ صَفًّا ۝
لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ
الرَّحْمَنُ وَ قَالَ صَوَابًا ۝

جس دن کھڑے ہوں گے جبریل اور
فرشتے صف باندھ کر۔ تو نہ بول سکیں
گے مگر جسکو اجازت بخشے رحمن اور وہ
کہے بات درست۔

ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ
إِلَىٰ رَبِّهِ مَابًا ۝

یہ دن برحق ہے۔ پس جو شخص چاہے بنا
لے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ۔

إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۝ يَوْمَ
يُنظَرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَ

بیشک ہم نے آگاہ کر دیا تمکو عذاب سے جو
عنقریب آئیوالا ہے۔ جس دن دیکھ لیگا ہر

شخص وہ جو آگے بھیجا ہوگا اسکے ہاتھوں
نے اور کھے گا کافر کہ کاش میں ہوتا مٹی۔

يَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا



Muslim Prayers

Learn how to Perform Salat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

In the name of Allah, Most Gracious, Most Merciful


تو قائم کرو نماز۔ بیشک نماز ہے مومنوں پر
فرض اوقات مقررہ کے ساتھ۔

فَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔

Prayer

الصَّلَاةُ - ضروری اجزاء


الصَّلَاةُ




تَشَهُدٌ



سُجْدَةٌ



رُكُوعٌ



قِيَامٌ

قیام

کھڑے ہو کر نماز کی نیت کریں۔ کعبہ کی طرف منہ کریں۔ تکبیر کہہ کر نماز شروع کریں

اللہ سب سے بڑا ہے

اللَّهُ أَكْبَرُ

دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور سینے سے نیچے باندھیں۔ سیدھا ہاتھ اوپر

اب آپ نماز میں قیام کی حالت میں ہیں

پہلے ثناء پڑھیے پھر سورۃ الفاتحہ پھر کوئی اور سورۃ

ثناء۔ صرف پہلی رکعت کے شروع میں پڑھیے

تسبیح کے لائق ہے تو اے اللہ اور تمام تعریف تیرے لئے ہے اور بابرکت ہے تیرا نام اور بلند ہے تیری شان اور نہیں کوئی معبود تیرے سوا۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ
اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَ لَا إِلَهَ
غَيْرُكَ۔

میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطاں مردود سے۔

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔

سورۃ الفاتحہ ہر رکعت کے شروع میں پڑھیے

شروع نام سے اللہ کے جو مہربان رحم والا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سب تعریف اللہ کے لئے رب مخلوقات کا۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾

بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢﴾

حاکم ہے انصاف کے دن کا۔

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٣﴾

تیری ہی عبادت ہم کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٤﴾

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

ہدایت دے ہمیں صراطِ مستقیم پر۔

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۚ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

راستے پر انکے تو فضل کرتا رہا جن پر۔ نہ ان کے غصے ہوتا رہا جن پر اور نہ گمراہوں کے۔

سورۃ الاخلاص یا کوئی دوسری سورۃ پہلی دو رکعت میں پڑھیے

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝

کہو وہ اللہ ہے یکتا۔

اللَّهُ الصَّمَدُ ۝

اللہ بے نیاز ہے۔

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝

نہ اسکی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی۔

رکوع

گھٹنوں پر جھکتے ہوئے پڑھیے

اللَّهُ أَكْبَرُ

اللہ سب سے بڑا ہے

اب آپ نماز میں رکوع کی حالت میں ہیں

تین مرتبہ یا زیادہ پڑھیے

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ

تسبیح میرے رب کی جو عظمت والا ہے۔

رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے پڑھیے

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَكَ
الْحَمْدُ

سن لیا اللہ نے اسے جس نے حمد کی اسکی۔ اے
ہمارے رب اور تیرے لئے ہے ساری تعریف۔

سجدہ

سر زمین پر رکھ کر تین مرتبہ یا زیادہ پڑھیے - دو سجدے

تسبیح میرے رب کی جو عالیشان ہے

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

تشہد

اب آپ تشہد میں قاعدے کی حالت میں ہیں

یہ دعائیں پڑھیے

التحیات - شہادہ - درود ابراہیمی - دعا

تمام تعظیم کے کلمات اللہ کے لئے ہیں اور تمام عبادات اور تمام پاکیزہ باتیں - سلام ہو آپ پر اے نبی اور رحمت اللہ کی اور اسکی برکتیں - سلام ہو ہم پر اور ان پر جو بندے ہیں اللہ کے نیک -

الَّتَحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ
وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ
اللَّهِ الصَّالِحِينَ -

میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ بندے ہیں اسکے اور اسکے رسول -

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ -

اے اللہ رحمت نازل فرما محمد ﷺ پر اور آل محمد پر جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر - بیشک تو لائق تعریف عظمت والا ہے -

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ -

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ
مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ -

اے اللہ برکت نازل فرما محمد ﷺ پر اور آل محمد
پر جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی
ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر۔
بیشک تو لائق تعریف عظمت والا ہے۔

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ
ذُرِّيَّتِي ۗ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ - رَبَّنَا
اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ
يَقُومُ الْحِسَابُ -

میرے رب بنا تو مجھ کو قائم کرنیوالا نماز کا اور میری
اولاد کو ہمارے رب اور قبول فرما میری دعا
۔ اے میرے رب مغفرت فرما میری اور
میرے والدین کی اور مومنوں کی اس دن جب
کھڑے ہوں حساب کے لئے۔

نماز مکمل کیجئے سر کو دائیں اور بائیں موڑتے ہوئے یہ کہتے ہوئے

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

سلام ہو آپ سب پر اور رحمت اللہ کی۔

قرآنی دعائیں

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ
حَسَنَةً ۗ وَفِي عَذَابِ النَّارِ

ہمارے رب عطا فرما ہم کو دنیا میں بھلائی اور
آخرت میں بھلائی اور محفوظ رکھ ہمیں عذاب سے
دوزخ کے

AlBaqarah [2:201]

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَ
هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۗ إِنَّكَ أَنْتَ
الْوَهَّابُ

ہمارے رب نہ پھیر ہمارے دلوں کو بعد اس کے
جب ہدایت بخشی ہے تو نے ہمیں اور عطا فرما
ہمیں اپنے پاس سے رحمت۔ یقیناً تو بڑا عطا
فرمانے والا ہے

AalImran [3:8]

ہمارے رب عطا فرما ہم کو ہماری بیویوں سے اور
ہماری اولاد سے ٹھنڈک آنکھوں کی اور بنا ہمیں
پرہیزگاروں کا پیشوا

AlFurqan [25:74]

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ دُرِّيتِنَا قُرَّةَ
أَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

اے ہمارے رب ظلم کیا ہم نے اپنی جانوں پر
اور اگر نہیں بخشے گا تو ہمیں اور (نہیں) رحم
کرے گا ہم پر تو یقیناً ہم ہو جائیں گے خسارہ
اٹھانے والوں میں

AlAaraf [7:23]

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَ
تَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخٰسِرِينَ

ہمارے رب بیشک ہم نے سنا ایک پکارنے
والے کو پکار رہا تھا ایمان کے لئے کہ ایمان لاؤ
اپنے رب پر تو ہم ایمان لے آئے۔ ہمارے
رب سو معاف فرما ہم سے ہمارے گناہ۔ اور دور
کر دے ہم سے ہماری برائیاں اور موت دے
ہمیں ساتھ نیکیوں کے

AalImran [3:193]

رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ
أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ
لَنَا ذُنُوبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ
الْأَبْرَارِ

ہمارے رب عطا فرما ہمیں اپنی جانب سے
رحمت۔ اور مہیا کر ہمیں ہمارے معاملات میں
درستی

AlKahaf [18:10]

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَ هَيِّئْ لَنَا
مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا

